



جعفر بن عقبہ بن حبيب  
العلوی

## سوال

(212) میں استانی ہوں کیا طالبات کے سوالات کے جوابات دے سکتی ہوں؟

## جواب

السلام علیکم ورحمة الله وبركاته

میں ایک استانی ہوں انٹرمیڈیٹ کالج سے میں نے اسلامک سٹڈیز میں سند فراگٹ حاصل کی ہے۔ کچھ فقہی کتابوں کا بھی مطالعہ کیا ہے طالبات مجھ سے سوال کرتا ہیں تو کیا اپنی معلومات کے مطابق بطریق قیاس واجتہاد--- حلal و حرام کے احکام میں مداخلت کرنے بغیر--- میں ان کے سوالوں کے جواب دے سکتا ہوں؟

## اجواب بعون الوہاب بشرط صحیح السؤال

و علیکم السلام ورحمة الله وبركاته!  
الحمد لله، والصلوة والسلام على رسول الله، أما بعد!

کتابوں کی طرف مراجحت اور اجتہاد کرنے کے بعد وہ جواب دو جس کے بارے میں ظن غالب یہ ہو کہ وہ صحیح ہے اور اس طرح سوالوں کے جواب میں میں کوئی حرج نہیں جب کسی جواب کے بارے میں شک ہو اور واضح نہ ہو کہ صحیح جواب کیا ہے تو کہہ دو اس جواب کا مجھے معلوم نہیں اور طالبات سے یہ وعدہ کر لو کہ تحقیق کر کے اس کا جواب بتاؤں گی پھر کتابوں کا مطالعہ کرو یا ابیل علم سے اس کا جواب پیدا کر معلوم ہو جائے کہ صحیح جواب کیا ہے۔

ہدایا عندي والله أعلم بالصواب

## فتاویٰ اسلامیہ

ج 1 ص 38